



4816CH13

دوسرے کے ساتھ مواصلات میں ہماری مدد کرتی ہے۔ ہم اپنے اطراف میں مختلف قسم کی آوازوں کو سنتے ہیں۔ اپنے آس پاس سنائی دینے والی آوازوں کی فہرست بنائیے۔ اپنے اسکول کے موسیقی کے کمرہ میں آپ بانسری، طبلہ، ہارمونیم جیسے آلات موسیقی کی آوازوں کو سنتے ہیں (شکل 13.1)۔ آواز کیسے پیدا ہوتی ہے؟ یا ایک جگہ سے دوسری جگہ کس طرح پہنچتی ہے؟ آواز کو ہم کس طرح سن پاتے ہیں؟ کچھ آوازیں دوسری آوازوں کے مقابلے تیز کیوں ہوتی ہیں؟ اس باب میں ہم اسی قسم کے سوالوں پر بحث کریں گے۔

آپ کو اسکول میں یہ کس طرح معلوم ہوتا ہے کہ پیر یہ ختم ہو چکا ہے۔ دروازے کی گھنٹی یا دستک کی آوازن کر آپ کو فوراً معلوم ہو جاتا ہے کہ آپ کے دروازے پر کوئی ہے۔ کئی مرتبہ قدموں کی آہٹ سن کر آپ کو یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ کوئی آپ کی طرف آ رہا ہے۔ آپ نے آنکھ پھولی کا کھیل کھلا ہو گا۔ اس کھیل میں ایک کھلاڑی کی آنکھ پر پٹی باندھ دیتے ہیں اور وہ باقی کھلاڑیوں کو پکڑنے کی کوشش کرتا ہے۔ آنکھوں پر پٹی بندھی ہونے کے باوجود بھی اس کھلاڑی کو کس طرح معلوم ہو جاتا ہے کہ اس کے آس پاس کوئی کھلاڑی ہے؟ آواز ہماری زندگی میں ایک اہم کردار ادا کرتی ہے۔ یہ ایک



شکل 13.1 : بعض آلاتِ موسیقی

اس پر چھڑی سے دوبارہ چوٹ ماریے اور چوٹ مارنے کے فوراً بعد اسے اپنے ہاتھوں سے کس کر کپڑ لے جیئے۔ کیا اب بھی آپ کو آواز سنائی دیتی ہے؟ جب پلیٹ آواز کرنا بند کر دے تو اسے پھر سے چھوکر دیکھیے۔ کیا اب آپ ارتعاش محسوس کرتے ہیں؟

### عملی کام 13.2

ایک ربر بینڈ لے جیئے۔ اسے (شکل 13.3) کے مطابق کسی پنسل کے ڈبہ پر چڑھا دیجیے۔ ڈبہ اور ربر بینڈ کے درمیان دو پنسلیں لگائیے۔ اب ربر بینڈ کو بیچ میں سے کھینچ کر چھوڑ دیجیے۔ کیا آپ کو کوئی آواز سنائی دیتی ہے؟ کیا ربر بینڈ میں ارتعاش ہوتا ہے؟



شکل 13.3 : ربر بینڈ کو کھینچنا

کسی چیز کی ادھر اور ادھر (to and fro) یا آگے اور پیچھے حرکت ارتعاش (back and forth) (vibration) کہلاتی ہے، جیسا کہ آپ ساتویں جماعت میں پڑھ چکے ہیں۔ جب تئے ہوئے ربر بینڈ کو کھینچ کر چھوڑتے ہیں تو یہ ارتعاش کرنے لگتا ہے اور آواز پیدا کرتا ہے۔ جب یہ ارتعاش کرنا بند کر دیتا ہے تو آواز بھی بند ہو جاتی ہے۔

سائنس

### 13.1 آواز مرتعش چیزوں کے ذریعہ پیدا ہوتی ہے

جب اسکول کی گھنٹی استعمال میں نہ ہوتا سے چھوکر دیکھیے۔ آپ کیا محسوس کرتے ہیں؟ جب یہ آواز پیدا کر رہی ہوتا سے دوبارہ چھوکر دیکھیے۔ کیا آپ اس میں ارتعاش محسوس کرتے ہیں؟

### عملی کام 13.1

ایک دھاتی پلیٹ (یا ایک فرائنسگ پین) لے جیئے۔ اسے کسی مناسب جگہ پر اس طرح لٹکائیے کہ یہ دیوار کو نہ چھوئے۔ اب اس کے اوپر چھڑی سے چوٹ ماریے (شکل 13.2)۔ کیا آپ کوئی آواز سنتے ہیں؟ پلیٹ یا فرائنسگ پین کو اپنی انگلی سے چھوکر دیکھیے۔ کیا آپ ارتعاش محسوس کرتے ہیں؟



شکل 13.2 : فرائنسگ پین پر چوٹ مارتے ہوئے

### عملی کام 13.3


ایک دھاتی طشتری بھی۔ اس میں پانی ڈالیے۔ اس کے کنارے پر چچپے سے چوٹ ماریے (شکل 13.4)۔ کیا آپ کو آواز سنائی دیتی ہے؟ طشتری پر دوبارہ چوٹ ماریے اور اسے چھو کر دیکھیے؟ کیا آپ طشتری میں ارتعاش محسوس کرتے ہیں؟ طشتری پر دوبارہ چوٹ ماریے۔ پانی کی سطح کو دیکھیے۔ کیا آپ کو یہاں لہریں (waves) نظر آتی ہیں؟ اب طشتری کو پکڑ بھی۔ پانی کی سطح پر آپ کس قسم کی تبدیلی کا مشاہدہ کرتے ہیں؟ کیا آپ اس تبدیلی کی وضاحت کر سکتے ہیں؟ کیا اس سے آواز اور چیز کے ارتعاش کے درمیان کسی قسم کے تعلق کا پتہ چلتا ہے؟



شکل 13.4 : ارتعاش کر رہی پلیٹ پانی میں لہریں پیدا کرتی ہیں

### عملی کام 13.4

ایک ناریل کا خول بھیجیے اور اس سے ”ایک تارا“ (ایک موسیقی آله) بنائیے۔ اسے آپ کسی مٹی کے برتن سے بھی بناسکتے ہیں (شکل 13.5)۔ اس آکہ موسیقی کو بجا بھیجئے اور اس کے ارتعاش کرنے والے حصہ کی شناخت کیجیے۔



شکل 13.5 : ایک تارا

کچھ ایسے موسیقی کے آلات کی فہرست بنائیے جن سے آپ واقف ہیں۔ ان کے ارتعاش کرنے والے حصوں کی شناخت کیجیے۔ کچھ مثالیں جدول 13.1 میں دی گئی ہیں۔ باقی جدول کو مکمل کیجیے۔

جدول 13.1 : آلات موسیقی اور ان کے ارتعاش کرنے والے حصے

ارتعاش کرنے والا حصہ جو آواز پیدا کرتا ہے	آلہ موسیقی	نمبر شمار
تینی ہوئی ڈوری	وینا	-1
تینی ہوئی جھلی	طلبه	-2
		-3
		-4
		-5
		-6
		-7


اس طرح ہم نے دیکھا کہ ارتعاش کرنے والی چیزیں آواز پیدا کرتی ہیں۔ کچھ معاملوں میں ارتعاش بآسانی نظر آتے ہیں لیکن زیادہ تر معاملوں میں ایک پلی ٹیوڈ (amplitude) اتنا کم ہوتا ہے کہ ہم انھیں دیکھنیں پاتے۔ حالاں کہ ہم ان ارتعاش کو محسوس کرتے ہیں۔

## عملی کام 13.5

8-6 دھاتی کٹورے لیجیے۔ ان میں پانی اس طرح بھریے کہ ایک سرے سے دوسرے سرے تک پانی کی سطح بڑھتی ہوئی ترتیب میں ہو۔ اب ایک پنسل لیجیے اور اس کی مدد سے کٹوروں پر آہستہ سے چوت ماریے۔ ان سبھی کٹوروں پر کیے بعد گیرے چوت ماریے۔ آپ کو خوش کن آواز سنائی دے گی۔ یہ آپ کا جل ترنگ ہے (شکل 13.7)۔




شکل 13.7 : جل ترنگ



سائز

آپ میں سے کچھ لوگوں نے منجرا، گھٹم، نوٹ اور کرتال دیکھے ہوں گے۔ یہ آلات موسیقی ہمارے ملک کے بہت سے حصوں میں عام طور سے استعمال کیے جاتے ہیں۔ ان آلات کو صرف پیٹا جاتا ہے یا ان پر چوت ماری جاتی ہے۔ (شکل 13.6) کیا آپ اسی قسم کے کچھ اور آلات موسیقی کے نام بتاسکتے ہیں؟ آپ بھی ایک آہ موسیقی بناسکتے ہیں۔

گھٹم




شکل 13.6 : کچھ اور آلات موسیقی

جب ہم ستار جیسے کسی آہ موسیقی کے تار کو چھیڑتے ہیں تو ہمیں صرف تار کی ہی آواز سنائی نہیں دیتی بلکہ مکمل آہ ارتعاش کرتا ہے اور ہم جو آواز سننے ہیں وہ اس پورے آلے کے ارتعاش کا نتیجہ ہے۔ اسی طرح جب ہم مرد نگم (mridangam) کی جھلی پر چوت مارتے ہیں تو ہم صرف جھلی کی ہی آواز نہیں سننے ہیں بلکہ پورے آلے کی آواز سنائی دیتی ہے۔

آواز سے مختلف ہوتا ہے جو غشائی پر دے کے ڈھیلے اور موٹے ہونے کی صورت میں پیدا ہوتی ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ غشائی پر دے کس طرح کام کرتی ہیں؟

### عملی کام 13.6

ایک ہی سائز کی دو ربر کی ٹپیاں لیجیے۔ ان دونوں کو ایک دوسرے کے اوپر کھکھرتاں دیجیے۔ اب ان کے نیچے کی جھری میں ہوا پھونکیے (شکل 13.9(a))۔ جب تنی ہوئی ربر کی ٹپیوں کے نیچے میں سے ہوا پھونکی جاتی ہے تو آواز پیدا ہوتی ہے۔ آپ ایک کاغذ کا ٹکڑا بھی لے سکتے ہیں جس میں ایک تنگ جھری ہو۔ اسے اپنی انگلیوں کے درمیان میں رکھ کر کپڑا لیجیے جیسا کہ شکل 13.9(b) میں دکھایا گیا ہے۔ اب جھری میں پھونک ماریے اور آواز کو سینے۔ ہمارے غشائی پر دے سے بھی اسی طرح آواز پیدا ہوتی ہے۔




شکل 13.9 (a) اور (b) : غشائی پر دوں کے کام کرنے کا طریقہ

### 13.2 انسانوں کے ذریعہ پیدا ہونے والی آواز

کچھ دیر تک زور سے بولیے یا ایک گانا گائیے یا مکھی کی طرح بھنپھنایے۔ اپنے ہاتھ کو اپنے گلے پر کھیجیں جیسا کہ شکل 13.8 میں دکھایا گیا ہے۔ کیا آپ ارتعاش محسوس کرتے ہیں؟

انسانوں میں آواز خانہ صوت (Voice box) یا نخرہ (larynx) کے ذریعہ پیدا ہوتی ہے۔ اپنی انگلیوں کو گلے پر کھیجی اور سخت ابھار کوتلاش کیجیے جو نگفتے وقت حرکت کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ جسم کا یہ حصہ خانہ صوت کہلاتا ہے۔ یہ سانس کی نی (wind pipe) کے بالائی سرے پر ہوتا ہے۔ خانہ صوت کے آر پار دو غشائی پر دے (Vocal cords) اس طرح تنی رہتی ہیں کہ ان کے نیچے میں ہوا کے گزرنے کے لیے ایک تنگ جھری بن جاتی ہے (شکل 13.8)۔



شکل 13.8 : انسانوں میں خانہ صوت

جب پھیپھڑے ہوا کو زور سے جھری کے باہر نکالتے ہیں تو غشائی پر دوں میں ارتعاش ہونے لگتا ہے۔ جس سے آواز پیدا ہوتی ہے۔ غشائی پر دوں سے منسلک عضلات کارڈ (cords) میں تناؤ پیدا کر سکتے ہیں اور انہیں ڈھیلا کر سکتے ہیں۔ جب غشائی پر دے تنے ہوئے اور پتلے ہوتے ہیں تو آواز کی قسم یا معیار اس

اب گلاس کے کناروں کو اپنے ہاتھوں سے پکڑیے (شکل 13.10)۔ اب اپنے منہ کو ہاتھوں کے درمیان کی خالی جگہ سے ہٹا لیجیے۔ اپنے دوست کو دوبارہ سے اس کی گھنٹی بجانے کا اشارہ کیجیے۔

کیا گلاس میں سے ہوا کو کھینچنے پر گھنٹی کی آواز کم ہو جاتی ہے؟ گلاس اپنے منہ سے ہٹائیے۔ کیا آواز دوبارہ تیز ہو جاتی ہے؟

کیا آپ اس بات کی وضاحت کر سکتے ہیں کہ ایسا کیوں ہوا؟ کیا یہ ممکن ہے کہ گلاس میں ہوا کی مقدار کم ہونے اور گھنٹی کی آواز کم ہونے میں کوئی تعلق ہے؟

درحقیقت اگر آپ گلاس کی تمام ہوا کو باہر کھینچ لینے ہیں تو آپ کو کوئی آواز سنائی نہیں دیتی۔ آواز کو سفر کرنے کے لیے وسیلہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ جب برتن سے تمام ہوا کو باہر نکال دیا جاتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ برتن میں خلا (Vacuum) ہے۔ آواز خلماں سفر نہیں کر سکتی۔

کیا آواز ریقق اشیا میں سفر کرتی ہے؟ آئیے معلوم کریں۔

### عملی کام 13.8

ایک باتی یا نہانے کا ٹب لیجیے۔ اسے صاف پانی سے بھر لیجیے۔ ایک ہاتھ میں چھوٹی سی گھنٹی لیجیے۔ پانی کے اندر اس گھنٹی کو بجاویے۔ اس بات کا خیال رہے کہ گھنٹی ٹب یا باتی کو نہ چھوٹے پائے۔ اپنے کان کو پانی کی سطح پر رکھیے (شکل 13.11)۔ (احتیاط رکھیے: پانی آپ کے کان میں نہیں جانا چاہیے) کیا آپ گھنٹی کی آوازن سکتے ہیں؟ کیا اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ آواز ریقق میں بھی سفر کر سکتی ہے؟

مردوں میں غشاںی پر دوں کی لمبائی تقریباً 20 ملی میٹر ہوتی ہے۔ عورتوں میں یہ تقریباً 5 ملی میٹر لمبی ہوتی ہے۔ بچوں میں یہ بہت چھوٹی ہوتی ہیں۔ اسی لیے مردوں، عورتوں اور بچوں کی آوازیں مختلف ہوتی ہیں۔

### 13.3 آواز کی تریل کے لیے وسیلہ کی ضرورت ہوتی ہے

جب آپ کچھ فاصلے پر کھڑے ہو کر اپنے دوست کو پکارتے ہیں تو آپ کے دوست کو آپ کی آواز سنائی دیتی ہے۔ آواز کیے منتقل ہوتی ہے یا اس تک کیسے سفر کرتی ہے؟

### عملی کام 13.7

ایک دھاتی گلاس لیجیے۔ یہ خشک ہونا چاہیے۔ اس میں ایک سیل فون رکھ دیجیے (یاد رہے کہ سیل فون کو پانی میں نہ رکھا جائے) اپنے دوست سے کہیے کہ وہ کسی دوسرے سیل فون سے اس فون کی گھنٹی بجائے۔ گھنٹی کی آواز کو غور سے سینے۔




شکل 13.10 : آواز کو سفر کرنے کے لیے وسیلہ کی ضرورت ہوتی ہے

کیا آپ کو کھر پنے کی آواز سنائی دیتی ہے؟ اپنے آس پاس کھڑے ہوئے دوستوں سے معلوم کیجیے کہ کیا انھیں بھی اسی طرح کی آواز سنائی دی؟

آپ اس سرگرمی کو اس طرح بھی انجام دے سکتے ہیں کہ آپ اپنے کان کو لکڑی یادھات کی کسی لمبی میز کے ایک سرے پر رکھیے اور اپنے دوست سے اس میز کے دوسرے سرے کو کھر پنے کے لیے کہیں (شکل 13.13)۔




شکل 13.13 : آواز ٹھوس چیزوں میں سفر کر سکتی ہے ہم نے دیکھا کہ آواز لکڑی یادھات سے ہو کر سفر کر سکتی ہے۔ آپ ایک دلچسپ سرگرمی انجام دے کر اس بات کا مظاہرہ کر سکتے ہیں کہ آواز ڈوری سے ہو کر بھی گزر سکتی ہے۔ یاد کیجیے اگر آپ نے



شکل 13.14 : کھلونا ٹیلی فون



شکل 13.11 : آواز پانی میں سفر کرتے ہوئے



آئیے معلوم کریں کہ کیا آواز ٹھوس اشیاء میں بھی سفر کر سکتی ہے؟

### عملی کام 13.9

دھات کا میٹر اسکیل یا کوئی لمبی چھڑی لیجیے۔ اس کے ایک سرے کو اپنے کان سے ٹلا کر رکھیے۔ اپنے دوست سے اسکیل کے دوسرے سرے کو کھر پنے کے لیے کہیں (شکل 13.12)۔




شکل 13.12 : آواز میٹر اسکیل میں سفر کرتے ہوئے



شکل 13.15 : ڈبے سے بنایا گیا کان کا پرده

کان کا پرده ایک تنے ہوئے ربر کی شیٹ کی طرح ہوتا ہے۔ آواز کے ارتعاش کان کے پرده کو متعش کر دیتے ہیں (شکل 13.16)۔



شکل 13.16 : انسانی کان

کبھی کھلونا ٹلی فون بنایا ہو (شکل 13.14)۔ کیا آپ کہہ سکتے ہیں کہ آواز ڈوریوں میں بھی سفر کر سکتی ہے؟

ہم پڑھ پکے ہیں کہ ارتعاش کر رہی چیزیں آواز پیدا کرتی ہیں اور یہ وسیلہ میں ہر طرف پھیل جاتی ہے۔ یہ وسیلہ گیس، ریقن یا پھر کوئی ٹھوس ہو سکتا ہے۔ اس آواز کو ہم کس طرح سن پاتے ہیں؟

#### 13.4 ہم آواز کو اپنے کانوں کے ذریعہ سنتے ہیں

کان کے باہری حصہ کی شکل قیف نما ہوتی ہے۔ جب آواز اس میں داخل ہوتی ہے تو یہ ایک نلی سے ہو کر گزرتی ہے جس کے سرے پر ایک پتلی جھلی کس کرتی رہتی ہے۔ اسے کان کا پرده (ear drum) کہتے ہیں۔ یہ ایک اہم کام انجام دیتا ہے۔ یہ جاننے کے لیے کہ کان کا پرده کیا کام کرتا ہے، آئینے کے ڈبے کی مدد سے کان کے پردوں کا ماذل بناتے ہیں۔

#### عملی کام 13.10

ایک پلاسٹک یا ٹن کا ڈبہ لیجیے۔ اس کے دونوں سرے کاٹ لیجیے۔ ڈبہ کے ایک سرے پر رکا غبارہ چڑھادیجیے اور اسے ایک ربر بینڈ سے کس دیجیے۔ تنے ہوئے ربر کے اوپر خشک اناج کے چار پانچ دانے ڈال دیجیے۔ اب اپنے دوست سے ڈبے کے کھلے ہوئے سرے پر ”ہرے ہرے“ بولنے کے لیے کہیے (شکل 13.15)۔ مشاہدہ کیجیے کہ اناج کے دانوں کا کیا ہوتا ہے؟ اناج کے دانے اوپر نیچے کیوں اچھلتے ہیں؟

بنا دیتے ہیں؟ جیط (Amplitude) اور سرعت کسی بھی آواز کی دو اہم خصوصیات ہیں۔ کیا ہم آوازوں میں ان کے ایکپلی ٹیوڈ اور سرعتوں کی بنیاد پر فرق کر سکتے ہیں؟

### آواز کی تیزی اور بیج

#### عملی کام 13.11

ایک دھاتی گلاس اور ایک چچپ لیجیے۔ چچپ کو آہستہ سے گلاس کے کنارے سے لکھ رائیے۔ پیدا ہونے والی آواز کو سنئے۔



شکل 13.17 : تھرموکول کی گیند ارتعاش کر رہے گلاس کو چھوٹے ہوئے

اب چچپ کو گلاس پر زور سے ماریے اور پیدا ہونے والی آواز کو دوبارہ سنئے۔ جب گلاس پر زور سے چوت مارتے ہیں تو کیا آواز زیادہ تیز ہو جاتی ہے؟

اب گلاس کے کنارے کو چھوٹی ہوئی ایک تھرموکول کی گیند لٹکائیے (شکل 13.17)۔ گلاس پر چوت مار کر اس میں ارتعاش پیدا کیجیے۔ دیکھیے کہ گیند کتنی دور تک منتقل ہوتی ہے۔ گیند کی ثقل مکانی گلاس کے ارتعاش کے جیط (ایکپلی ٹیوڈ) کی پیمائش ہے۔

کان کا پردہ ارتعاش کو اندر ورنی کان (inner ear) میں بیج دیتا ہے۔ وہاں سے سگنالوں کو دماغ میں بیج دیا جاتا ہے۔ اس طرح ہم آواز کو سننے ہیں۔



ہمیں کبھی بھی اپنے کان میں کوئی بھی نوک دار یا سخت چیز نہیں ڈالنی چاہیے۔ یہ کان کے پردہ کو نقصان پہنچا سکتی ہے جس سے قوتِ سمع کم ہو سکتی ہے۔

#### 13.5 ارتعاش کا ایکپلی ٹیوڈ، مدت و قوت اور سرعت

ہم پڑھ پکے ہیں کہ کسی چیز کی ادھر اور ادھر حرکت ارتعاش کہلاتی ہے۔ اس حرکت کو، ہم اہتزازی حرکت (Oscillatory motion) کہلاتی ہے۔ کہتے ہیں۔ آپ پچھلی جماعتوں میں اہتزازی حرکت اور اس کی مدت و قوت کے بارے میں پڑھ پکے ہیں۔


ایک سینڈ میں ہونے والے اہتزاز (oscillations) کی تعداد اہتزاز کی سرعت (frequency) کہلاتی ہے۔ سرعت کو ہر ہریز (hertz) میں ظاہر کیا جاتا ہے۔ اس کی علامت Hz ہے۔ 1Hz سرعت کا مطلب ہے ایک اہتزاز فی سینڈ۔ اگر کوئی شے ایک سینڈ میں 20 اہتزاز کرتی ہے تو اس کی سرعت کیا ہوگی؟

آپ ایسی متعدد آوازوں کو جن سے آپ پہلے ہی واقف ہیں، انھیں پیدا کرنے والی چیزوں کو دیکھے بغیر ہی پہچان سکتے ہیں۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ اس کے لیے ضروری ہے کہ یہ آوازیں مختلف قسم کی ہوں۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ کون سے عوامل انھیں مختلف

ہے تو ہم کہتے ہیں کہ آواز کا پچ کم ہے۔

مثال کے طور پر ڈرم (ڈھوک) کم سرعت کے ساتھ ارتعاش کرتا ہے اس لیے کم پچ کی آواز پیدا کرتا ہے۔ دوسرا طرف سیٹی کی سرعت زیادہ ہوتی ہے اس لیے یہ زیادہ پچ کی آواز پیدا کرتی ہے (شکل 13.18)۔ پرندہ زیادہ پچ کی آواز پیدا کرتا ہے۔ جب کہ شیر کی دہڑ کم پچ کی آواز ہے۔ حالاں کہ شیر کی دہڑ بہت تیز ہوتی ہے جب کہ پرندہ کی آواز ہلکی ہوتی ہے۔

آپ روزانہ بچوں اور بڑوں کی آوازیں سنتے ہیں۔ کیا آپ کو ان کی آوازوں میں کچھ فرق نظر آتا ہے؟ کیا آپ کہہ سکتے ہیں کہ



شکل 13.18 : سرعت آواز کی پچ کا تعین کرتی ہے

اب گلاس پر پہلے آہستہ اور پھر ذرا سختی سے چوٹ ماریے۔ دونوں حالتوں میں گلاس کے ارتعاش کی آواز کی تیزی آواز پیدا کرنے والے ارتعاش کی وجہ کے مربع کے متناسب ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر وجہ کو دو گنا کر دیا جائے تو آواز کی تیزی چار گنا ہو جائے گی۔ آواز کی تیزی کو ڈیسیبل (dB) میں ظاہر کرتے ہیں۔ مندرجہ ذیل جدول میں مختلف ذرائع سے آنے والی آواز کی تیزی دی گئی ہے۔

10 dB	عام حالت میں سانس لینا
30 dB	پھنسپھساہٹ (5 میٹر تک)
60 dB	عام ہات چیت
70 dB	مصروف ٹریک
80 dB	اوسط فیکٹری

80 سے زیادہ کی آواز عام طور پر تکلیف دہ ہوتی ہے۔

آواز کی تیزی اس کے ایمپلی ٹیوڈ پر منحصر ہوتی ہے۔ جب ارتعاش کا ایمپلی ٹیوڈ زیادہ ہوتا ہے تو آواز تیز پیدا ہوتی ہے اور جب ایمپلی ٹیوڈ کم ہوتا ہے تو آواز دھیمی پیدا ہوتی ہے۔

کسی پچ کی آواز کا موافقة بالغ فرد سے کیجیے۔ کیا ان کی آوازوں میں کچھ فرق ہے؟ چاہے دونوں آوازیں مساوی طور پر تیز ہوں پھر بھی ان میں کچھ فرق ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ ان میں کیا فرق ہے؟



میں جیسا کہ میری آواز میرے استاد کی آواز سے مختلف کیوں ہے؟

سرعت آواز کی باریکی (shriileness) یا پچ (pitch) کا تعین کرتی ہے۔ اگر ارتعاش کی سرعت زیادہ ہے تو ہم کہتے ہیں کہ آواز باریک ہے اور اس کا پچ زیادہ ہے۔ اگر ارتعاش کی سرعت کم

آوازیں آپ کو اچھی لگتی ہیں، جب کچھ آوازیں اچھی نہیں لگتیں۔ فرض کیجئے کہ آپ کے پڑوس میں تعمیر کا کام چل رہا ہے۔ کیا ایسی جگہوں سے آنے والی آوازیں آپ کو اچھی لگتی ہیں؟ کیا آپ کو بسوں اور ٹرکوں کے ہارن (horn) کی آوازیں اچھی لگتی ہیں؟ اس قسم کی ناپسندیدہ آوازیں شور (noise) کہلاتی ہیں۔ اگر کلاس میں سبھی طلباء ایک ساتھ بولنے لگیں تو پیدا ہونے والی آوازوں کیا کہیں گے؟

دوسری طرف آپ آلات موسیقی کی آوازوں سے لطف انداز ہوتے ہیں۔ سریلی آواز (Musical sound) وہ آواز ہے جو کانوں کو اچھی لگتی ہے۔ ہار موئیم سے پیدا ہونے والی آواز سریلی آواز ہے۔ ستار کے تار کی آواز بھی سریلی آواز ہوتی ہے۔ لیکن اگر سریلی آواز بہت تیز ہو جائے تو کیا یہ پھر بھی سریلی ہی رہے گی؟

### 13.8 شور کی آلودگی

آپ فضائی آلودگی کے بارے میں پہلے ہی جانتے ہیں۔ ہوا میں غیر ضروری گیسوں اور ذرات کی موجودگی فضائی آلودگی کہلاتی ہے۔ اسی طرح ماحول میں بہت زیادہ یا غیر ضروری آوازوں کو شور کی آلودگی کہتے ہیں۔ کیا آپ شور کی آلودگی کے کچھ ذراع کی فہرست بن سکتے ہیں؟ موڑ گاڑیوں کی آوازیں، دھماکے جس میں پٹاخوں کا پھٹنا بھی شامل ہے، مشینیں، لاڈ اسپیکر وغیرہ شور کی آلودگی کی وجوہات ہیں۔ گھر میں کون سے ذراع شور پیدا کر سکتے ہیں؟ اوپنی آواز میں چلائے جانے والے ٹیلی ویژن اور ٹرانسٹر ریڈیو، باور پی خانے میں استعمال ہونے والے کچھ آلات، ڈیزرت کولر، ارکنڈیشنر وغیرہ سبھی شور کی آلودگی کا باعث ہیں۔

پچھے کی آواز کی سرعت بالغ آدمی کی آواز کی سرعت سے زیادہ ہوتی ہے۔ عام طور سے عورت کی آواز کی سرعت مرد کے مقابلے زیادہ ہوتی ہے۔

### 13.6 قابل ساعت اور ناقابل ساعت آوازیں

ہم جانتے ہیں کہ آواز پیدا کرنے کے لیے ہمیں ارتعاش کرنے والی چیز درکار ہوتی ہے۔ کیا ہم سبھی ارتعاش کرنے والی چیزوں کی آوازوں کو سن سکتے ہیں؟

یہ حقیقت ہے کہ 20 ارتعاش فی سینٹ (20 Hz) سے کم سرعت کی آواز کو انسانی کان سن نہیں سکتے۔ اس قسم کی آوازیں ناقابل ساعت آوازیں کہلاتی ہیں۔ دوسری طرف وہ آوازیں جن کی سرعت 20,000 ارتعاش فی سینٹ (20 KHz) سے زیادہ ہوتی ہے انھیں بھی انسانی کان نہیں سن سکتے۔ اس طرح انسانی کانوں کے لیے قابل ساعت سرعتوں کی ریخ 20 سے 20,000 تک ہے۔

کچھ جانور 20,000 سے زیادہ سرعتوں کی آوازوں کو سن سکتے ہیں۔ کتوں میں یہ صلاحیت ہوتی ہے۔ پوس کے سپاہی اوپنی سرعتوں کی آواز پیدا کرنے والی سیطیوں کا استعمال کرتے ہیں جسے کتنے سن سکتے ہیں لیکن انسان نہیں سن پاتتے۔

الٹراساؤنڈ وہ آلہ ہے جس سے ہم بھی واقف ہیں اور اس کا استعمال امراض کی تشخیص وغیرہ میں کیا جاتا ہے۔ یہ آلہ بھی 20,000 Hz سے زیادہ سرعت پر کام کرتا ہے۔

### 13.7 شور اور موسیقی

ہم اپنے چاروں طرف مختلف قسم کی آوازیں سنتے ہیں؟ کیا آواز ہمیشہ ہی خوش کن ہوتی ہے؟ کیا کچھ آواز آپ کو تکلیف پہنچاتی ہے؟ کچھ

کے انخبوں، موڑگاڑیوں، صنعتی مشینوں اور گھریلو آلات میں آواز مزاحم

آلات (silencing devices) لگانے چاہئیں۔ رہائشی علاقوں میں شور کی آلو دگی پر کس طرح قابو پایا جا سکتا ہے؟ آواز پیدا کرنے والی سرگرمیاں رہائشی علاقوں سے دور انجام دی جائیں۔ شور پیدا کرنے والی صنعتوں کو رہائشی علاقوں سے دور کانا چاہیے۔ موڑگاڑیوں میں ہارن کا استعمال کم سے کم کرنا چاہیے۔ ٹیلی ویژن اور میوزک سسٹم کو کم آواز کے ساتھ چلانا چاہیے۔ شور کی آلو دگی کے مضر اثرات کو کم کرنے کے لیے سڑکوں کے کنارے اور عمارتوں کے آس پاس درخت لگانے چاہئیں، جن سے شور گھروں تک نہ پہنچ سکے۔

## شور کی آلو دگی کے کیا نقصان ہیں؟

کیا آپ جانتے ہیں کہ اطراف میں بہت زیادہ شور کی موجودگی کی وجہ سے صحت متاثر ہو سکتی ہے۔ نیند نہ آنا، بہت زیادہ تناؤ، بہت زیادہ بلڈ پریشر (Hypertension)، بے چینی اور دیگر بہت سے عارضے شور کی آلو دگی کی وجہ سے پیدا ہو سکتے ہیں۔ لگاتار تیز آواز کے زیر اثر رہنے والے شخص کی قوت ساماعت عارضی طور پر اور یہاں تک کہ مستقل طور پر مفلوج ہو سکتی ہے۔

## شور کی آلو دگی کو محدود کرنے کے طریقے

شور کی آلو دگی پر قابو پانے کے لیے ہمیں شور کے ذرائع پر قابو کھنا چاہیے۔ یہ کام کس طرح کیا جا سکتا ہے؟ اس کے لیے ہوائی جہازوں

## نقص ساماعت (Hearing Impairment)

قوت سامعہ کا کامل طور پر مفلوج ہونا حالاں کہ شاذ و نادر ہی ہوتا ہے، یہ عموماً پیدائشی نقص ہے۔ جزوی معذوری عام طور سے کسی بیماری، چوٹ یا عمر کی وجہ سے ہوتی ہے۔ ایسے بچے جن کی قوت سامعہ مفلوج ہے انھیں خاص دیکھ بھال کی ضرورت ہے۔ ایسے بچے علمتی زبان کو سیکھ کر موثر طریقے سے خیالات کا اظہار کر سکتے ہیں کیوں کہ قوت نطق (speech) ساماعت کے نتیجہ میں فروغ پاتی ہے اس لیے ساماعت کے معاملے میں معذور افراد کے لیے تیار کیے گئے تکنیکی آلات نے ایسے لوگوں کی زندگی میں سدھار ممکن بنادیا ہے۔ ایسے لوگوں کے رہن سہن کے ماحول کو بہتر بنانے کے لیے سماج بہت کچھ کر سکتا ہے اور عام زندگی گزارنے میں ان کی مدد کر سکتا ہے۔

## کلیدی الفاظ

(AMPLITUDE)	حیط
(EARDRUM)	کان کا پرده
(hertz)(Hz)	فری کوپنی
(LARYNX)	نخرہ
(LOUDNESS)	آواز کی تیزی
(NOISE)	شور
(OSCILLATION)	اہتزاز
(PITCH)	چیج
(TIME PERIOD)	معیاد وقت
(VIBRATION)	ارتعاش
(VOICE BOX)	خانہ صوت
(WIND PIPE)	سانس کی نلی

- آپ نے کیا سیکھا
- آواز ارتعاش کر رہی چیزوں کے ذریعہ پیدا ہوتی ہے۔
  - انسانوں میں عشاٹی پر دوں کے ارتعاش سے آواز پیدا ہوتی ہے۔
  - آواز کو سفر کرنے کے لیے وسیلہ (گیس، ریقین یا ٹھوس) کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ کیوم (vacuum) یعنی خلا میں سفر نہیں کر سکتی۔
  - کان کا پرده آواز کے ارتعاش کو محصور کرتا ہے۔ یہ سگنلوں کو دماغ تک بھیجا ہے۔ اس عمل کو سماعت کہتے ہیں۔
  - ایک سینئنڈ میں ہونے والے اہتزاز کی تعداد اہتزاز کی سرعت کہلاتی ہے۔
  - سرعت کو ہر ڑٹ (Hz) میں ظاہر کیا جاتا ہے۔
  - ارتعاش کا دھیط جتنا زیادہ ہو گا آواز اتنی ہی تیز ہو گی۔
  - ارتعاش کی سرعت جتنی زیادہ ہو گی چیج اتنی ہی زیادہ ہو گی اور آواز اتنی ہی باریک ہو جائے گی۔
  - ناگوار آوازیں شور کہلاتی ہیں۔
  - بہت زیادہ اور غیر مطلوب آوازیں شور کی آلو دگی کا سبب ہیں۔ شور کی آلو دگی سے انسانی صحت پر مضر اثرات مرتب ہو سکتے ہیں۔
  - شور کی آلو دگی کو کم سے کم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔
  - سڑک کے کنارے اور دوسری جگہوں پر درخت لگانے سے شور کی آلو دگی کم ہوتی ہے۔


## مشقیں

- 1- صحیح جواب کا انتخاب کیجیے۔  
آواز سفر کر سکتی ہے  
  - (a) صرف گیسوں میں
  - (b) صرف ٹھوس اشیاء میں
  - (c) صرف ریقین اشیاء میں
  - (d) ٹھوس، ریقین اور گیس اشیاء میں
- 2- مندرجہ ذیل میں سے کس آواز کی سرعت سب سے کم ہو سکتی ہے؟  
  - (a) چھوٹے لڑکے کی
  - (b) چھوٹے لڑکی کی
  - (c) آدمی کی
  - (d) عورت کی

- 3- مندرجہ ذیل بیانات میں درست بیان کے سامنے صحیح، اور غلط بیان کے سامنے غلط لکھیے۔
- آواز خلایں سفر نہیں کر سکتی۔ (صحیح / غلط)
  - ارتعاش کر رہی کسی چیز کے ذریعہ ایک سینٹ میں ہونے والے اہتزاز کی تعداد اس کی مدت وقت کا ملاتی ہے۔ (صحیح / غلط)
  - اگر ارتعاش کی وحیطہ زیادہ ہے تو آواز ہلکی ہوتی ہے۔ (صحیح / غلط)
  - انسانی کانوں کے لیے قابل سماعت ریخ 20 Hz سے 20,000 Hz ہے۔ (صحیح / غلط)
  - ارتعاش کی سرعت جتنا کم ہوگی تو اتنی ہی زیادہ ہوگی۔ (صحیح / غلط)
  - ناپسندیدہ اور ناگوار آواز موسیقی کا ملاتی ہے۔ (صحیح / غلط)
  - شور کی آلوگی قوت سماعت کو جزوی طور پر مغلوب کر دیتی ہے۔ (صحیح / غلط)
- 4- مناسب الفاظ سے خالی جگہوں کو پر کیجیے۔
- کسی چیز کے ذریعہ ایک اہتزاز کو مکمل کرنے میں لیا گیا وقت \_\_\_\_\_ کہلاتا ہے۔
  - آواز کی تیزی کا تعین ارتعاش کی \_\_\_\_\_ کے ذریعہ کیا جاتا ہے۔
  - سرعت کی اکائی \_\_\_\_\_ ہے۔
  - ناگوار آواز \_\_\_\_\_ کہلاتی ہے۔
  - آواز کے باریک ہونے کا تعین ارتعاش کی \_\_\_\_\_ کے ذریعہ کیا جاتا ہے۔
- 5- ایک پینڈولم 4 سینٹ میں 40 مرتبہ اہتزاز کرتا ہے۔ اس کی مدت وقت اور سرعت معلوم کیجیے۔
- 6- ایک چھر اپنے پروں کو 500 ارتعاش فی سینٹ کی شرح سے مرتفع کر کے آواز پیدا کرتا ہے۔ ارتعاش کی مدت وقت معلوم کیجیے۔
- 7- مندرجہ ذیل آلات میں اس حصہ کی شاخت کیجیے جس میں ارتعاش کی وجہ سے آواز پیدا ہوتی ہے۔
- ڈھولک
  - ستار
  - بانسی
- 8- شور اور موسیقی میں کیا فرق ہے؟ کیا کبھی موسیقی شور بن سکتی ہے؟
- 9- اپنے اطراف میں شور کی آلوگی کے ذرائع کی فہرست بنائیے۔
- 10- وضاحت کیجیے کہ شور کی آلوگی انسانوں کے لیے کس طرح مضر ہے؟
- 11- آپ کے والدین ایک مکان خریدنا چاہتے ہیں۔ انھیں ایک مکان سڑک کے کنارے پر اور دوسرا سڑک سے تین گلیاں چھوڑ کر دکھایا گیا ہے۔ آپ اپنے والدین کو کون سامکان خریدنے کا مشورہ دیں گے؟ اپنے جواب کی وضاحت کیجیے۔
- 12- نزخرہ کی تصویر بنائیے اور اس کے انعام اپنے الفاظ میں واضح کیجیے۔
- 13- آسمان میں بجلی کی چک اور گرج کی آواز ایک ہی وقت پر اور ہم سے یکساں فاصلے پر پیدا ہوتی ہیں۔ ہمیں بجلی کی چک پہلے نظر آتی ہے اور گرج کی آواز بعد میں سنائی دیتی ہے۔ کیا آپ اس کی وضاحت کر سکتے ہیں؟


## توسیعی آموزش - عملی کام اور پروجیکٹ

1. اپنے اسکول کے موسیقی کے کمرہ میں جائیے۔ آپ اپنے علاقے کے کسی موسیقار کے یہاں بھی جاسکتے ہیں۔ موسیقی کے آلات کی فہرست بنائیے۔ ان آلات کے ان حصوں کے نام لکھیے جو آواز پیدا کرنے کے دوران ارتعاش کرتے ہیں۔
2. اگر آپ کسی آکہ موسیقی کو بجا تے ہیں تو اسے کلاس میں لائیے اور دکھائیے کہ آپ اسے کس طرح بجا تے ہیں؟
3. ہندوستان کے مشہور موسیقاروں کے نام اور جن آلات کو وہ بجا تے ہیں ان کے ناموں کی فہرست بنائیے۔
4. ایک لمبادھا گا لیجیے۔ اپنے ہاتھوں کو اپنے کانوں پر رکھیے اور اپنے کسی دوست سے اس دھاگے کو آپ کے سر اور ہاتھوں کے چاروں طرف رکھنے کے لیے کہیے۔ اس سے کہیے کہ وہ دھاگے کے دوسرے سرے کو سر کر ہاتھ میں کپڑا۔ اب اس سے اپنی انگلی اور انگوٹھے کو دھاگے کی سمت میں کس کر چلانے کے لیے کہیے (شکل 13.19)۔ کیا آپ کو بادلوں کے گرجنے چیزیں آواز سنائی دیتی ہے؟ اب اس سرگرمی کو اس وقت دوہرائیجے جب آپ دونوں کے پاس کوئی اور دوست کھڑا ہو۔ کیا اسے کوئی آواز سنائی دیتی ہے؟



شکل 13.19

5. دو کھلونا ٹیلی فون بنائیے۔ ان کا استعمال شکل 13.20 کے مطابق کیجیے۔ اس بات کو لیتیں بنائیے کہ دونوں دھاگے کسے ہوئے ہوں اور ایک دوسرے کو چھوڑ ہے ہوں۔ اب چاروں میں سے کسی ایک کو بولنے دیجیے۔ کیا باقی تینوں افراد آواز کو سن سکتے ہیں؟ دیکھیں آپ کتنے



شکل 13.20

اور دوستوں کو اس عملی کام میں شامل کر سکتے ہیں۔ اپنے مشاہدات کی وضاحت کیجیے۔


6۔ اپنے علاقے میں شور کی آلوگی کے ذرائع کی شناخت کیجیے۔ اپنے والدین، دوستوں اور پڑوسیوں کے ساتھ نتھکو کیجیے۔ تجویز کیجیے کہ شور کی آلوگی پر کس طرح قابو پایا جاسکتا ہے۔ ایک مختصر پورٹ تیار کیجیے اور اسے کلاس میں پیش کیجیے۔

آپ مندرجہ ذیل ویب سائٹ پر متعلقہ موضوعات کے بارے میں اور زیادہ معلومات حاصل کر سکتے ہیں :

- [www.physicsclassroom.com/Class/sound/soundtoc.html](http://www.physicsclassroom.com/Class/sound/soundtoc.html)
- [health.howstuffworks.com/hearing.htm](http://health.howstuffworks.com/hearing.htm)

### کیا آپ کو معلوم ہے؟

ہندوستان میں حیدر آباد کے نزدیک گول کنڈہ میں ایک عظیم الشان قلعہ ہے۔ یہ انجینئرنگ اور فن تعمیر کے کئی حریت انگیز نمونوں کے لیے مشہور ہے۔ ان میں سے ایک حریت انگیز نمونہ پانی کی سپلائی کا نظام ہے۔ لیکن سب سے زیادہ متحیر کرنے والی چیز وہ گنبد ہے جو قلعہ کے داخلی دروازے کے نزدیک واقع ہے۔ اس گنبد کے نیچے ایک مقررہ نقطہ پر ہاتھوں کی تالیوں سے پیدا ہونے والی آواز کی گونج کو تقریباً ایک کلومیٹر کے فاصلے پر واقع قلعہ کے سب سے اوپرے نقطے پر سنا جاسکتا ہے۔ اسے ایک وارنگ سسٹم کے طور پر بنایا گیا تھا۔ اگر کوئی محافظ قلعہ کے باہر کوئی مشتبہ حرکت دیکھتا تھا تو وہ گنبد کے اندر ایک مقررہ نقطہ پر تالیاں بجا تا تھا اور قلعہ کے اندر کی فوج مکملہ خطرے کے تینیں چوکنا ہو جاتی تھیں۔



گول کنڈہ کا قلعہ